



Textile minister critical of yarn producers

By Kalbe Ali

Wednesday, 17 Mar, 2010 | 05:55 AM PST |

ISLAMABAD: Textile Minister Rana Mohammad Farooq Saeed Khan on Tuesday criticised yarn manufacturers for trying to take “undue advantage” of the yarn situation, and said the ministry could not be blackmailed by any sector.

At a press conference, Rana Farooq Saeed Khan said the government is determined to resolve the grievances of textile industry for a balanced growth of the whole sector.

“The textile ministry is committed to a balanced growth of the entire textiles value chain and the textiles policy 2009-2014 is a testimony to this claim, where all sub-sectors have been included for development of this vital sector of national economy,” he said.

He said all stakeholders are being taken into confidence over the prevailing yarn crisis.

He said to protect the local textile industry, the government has curtailed export quota of yarn at 35 million kgs as against 50 million kgs.

He also pointed out that during the last two years, spinning industry had exported 527 million kgs each year and exports in the current fiscal year have crossed 614 million kgs mark.

He, however, added that the government would not bow down to one sector and would not compromise.

He criticised yarn manufacturers for demanding rights to export higher quantity of yarn.

Responding to a query that yarn manufacturers were threatening to launch an indefinite strike if their demands are not met, the minister said he could not be blackmailed by anyone.

“Let us see how long can they sustain strike,” the minister said and added that the government has fulfilled its promises to provide un-interrupted supply of gas, electricity and reduced mark-up rate to promote the textile industry.

“The spinning units were on verge of collapse last year and it was due to government support that they stable now,” Rana Saeed said.

Yarn export has increased 50 per cent as compared to exports in the last two years due to yarn shortages at international markets, mainly in China exports have increased significantly this year.

It has been decided in successive meetings of both the National Assembly and the Senate's standing committees on textiles which took notice of the crisis and recommended government

control on yarn exports.

However, the value-added yarn having export price more than \$ 3.5 per kg is allowed to be exported.

The minister said to facilitate the spinning sector, the State Bank of Pakistan would provide export refinance facility for import of two million cotton bales, while the government has reduced income tax for domestic sales from 35 per cent to 10 per cent for the period of March 1, 2010 to June 30, 2010.

“Yarn manufacturers should not manipulate the situation now, they have to understand that next year the spinning sector could be in crises too,” he added.

<http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/business/13+textile-minister-critical-of-yarn-producers-730-za-01>

INTERNATIONAL THE NEWS

Minister for balanced growth of textile sector

Wednesday, March 17, 2010

ISLAMABAD: The Government is determined to resolving the grievances of the textile industry for the balanced growth of the sector and in this regard all stakeholders would be taken into confidence.

This was stated by the Minister for Textile Industry, Rana Muhammad Farooq Saeed Khan at a press conference here on Tuesday. “The Ministry is committed for balanced growth of the entire textiles value chain and the textile policy 2009-2014 is a testimony to this claim, where all sub-sectors have been included for the development of this vital sector of national economy”, he said.

The minister said to protect the local textile industry, the government had curtailed export quota of yarn at 35 million kgs as against 50 million kgs.

Rana Saeed said the government was closely monitoring the export of yarn, adding that violation of quota would not be tolerated as it was harming the local industry as well as the national economy.

He said the government had fulfilled its promises to provide un-interrupted supply of gas, electricity and reduced markup rate to promote the textile industry of the country.

He said due to the measures of the government, the spinning sector had largely benefited and yarn export had increased 50 percent as compared to figures of the last two years.

The minister said increasing trend of yarn export created shortage of the commodity in the local market which led to huge problems for local textile manufacturers.

Meanwhile, he said the prices of the yarn in international market had not increased comparatively. In their successive meetings, both National Assembly and Senate’s Standing Committees on Textiles

took notice of the crisis and recommended to the government strong measures to curb the exports of yarn, he added.

Rana Farooq said value added yarn fetching a price of more than US\$ 3.5 per kg would be allowed over and above the quota to only those units which would be registered with the Ministry of Textiles Industry as value added exporters and within the limits of assessed capacities. State Bank of Pakistan will provide export refinance facility for import of 2 million bales of cotton and domestic sales of yarn by spinning mills will attract 10 percent income tax for the period March 1, 2010 to June 30, 2010, he added.

The above measures clearly indicate that an objective and unbiased view of the crisis was taken by the Ministry and mitigating measures were adopted to lessen the difficulty of the spinning sector as well.

He was of the view that Textile Policy had also extended the benefit of reduced mark-up cost to the spinning sector, for which a sum of Rs5 billion has been allocated. He also pointed out that during the last two years spinning industry had exported 527 million kgs each year.

پاور لومز کو دھاگے کی فراہمی بقدر بنانے کیلئے برائے وسائل اور کارکنوں کے ہارڈ ورک

دھاگے کی ماہانہ برآمد کا کوٹہ 35 ملین کلوگرام مقرر کر دیا، خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، اسپننگ سیکٹر بھی اپنی انڈسٹری کا خیال کرے

کسانوں کے مفاد کے تحفظ کیلئے ساری کپاس بھی خریدنا پڑی تو خریدیں گے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا، پریس کانفرنس

سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے بھی اس معاملہ کا نوٹس لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دھاگے کی برآمد پر پابندی عائد کر دیں جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹیوں کو بتایا کہ کابینہ کمیٹی معاملہ کا جائزہ لے رہی ہے، پچھلے سال روٹی 3200 روپے سے 3300 میں فروخت ہوئی تھی۔ اب 4200 سے 4600 تک پہنچ گئی ہے۔ ہم نے اسپننگ سیکٹر سے کہا کہ وہ مارکیٹ میں دھاگے کی فراہمی بہتر بنائیں تاہم وہ وعدے کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیا۔ دسمبر میں کابینہ کمیٹی نے ہدایت کی کہ بیرون ملک برآمد کئے جانے والے دھاگے کی رجسٹریشن کرائی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کتنا دھاگے برآمد کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایکسپورٹ کی صورتحال سے حکومت مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں بجلی اس وقت بھی سستی ہے۔

گوجرانوالہ میں بھی ہیں، میرے حلقے میں پاور لومز نہیں ہیں، صرف ملک کیلئے کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے 62 سال میں پہلی مرتبہ ٹیکسٹائل پالیسی تیار کی اور سب کی مشاورت سے یہ پالیسی تیار کی گئی، اس میں اسپننگ سیکٹر کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا، حالات نے ثابت کیا کہ ہم نے ان کیلئے خلوص نیت سے کام کیا اور اسپننگ سیکٹر کو عروج حاصل ہوا، پچھلے سال روٹی کی 11 ملین گانٹھیں پیدا ہوئیں، اس دفعہ 13 ملین گانٹھیں ہوئی ہیں، پچھلے سال سے 2 ملین گانٹھیں زیادہ ہیں۔ چین کی فصل خراب ہونے اور دنیا میں کپاس کی پیداوار کم ہونے کا ہمیں فائدہ ہوا، سب سے زیادہ خریدار چین سے آئے۔ کپاس کی قیمت 59 سینٹ سے 85 سینٹ تک پہنچ گئی۔ رواں مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں پچھلے دو سال کی نسبت 50 فیصد زیادہ دھاگے برآمد ہوا جبکہ مقامی فراہمی میں زبردستی کی اور قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے پاور لومز کا شعبہ بحران کا شکار ہو گیا اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ بازار میں دھاگے نایاب ہو گیا اور دھاگے نہیں مل رہا تھا، جب امن وامان کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا تو حکومت نے کچھ نہ کچھ تو اقدام کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی اور پاور لومز کو بچانے کیلئے ہم نے اسپننگ سیکٹر سے مذاکرات کئے، ان سے کہا کہ دھاگے پاور لومز کو فروخت کرنے سے انکار نہ کریں، قومی اسمبلی اور

اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی وزیر ٹیکسٹائل انڈسٹری رانا فاروق سعید خان نے کہا ہے کہ حکومت نے دھاگے کی ماہانہ برآمد کا کوٹہ 35 ملین کلوگرام مقرر کر دیا ہے، کوٹہ کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، پاور لومز کو دھاگے کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اسپننگ سیکٹر کو بھی اپنی انڈسٹری کا خیال کرنا چاہئے، مخالفانہ اشتہارات اور بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، کسانوں کے مفاد کے تحفظ کیلئے ساری کپاس حکومت کو خریدنا پڑی تو خریدیں گے۔ وہ منگل کو یہاں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر سیکرٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈاکٹر وقار مسعود بھی موجود تھے۔ رانا فاروق سعید خان نے کہا کہ حکومت کو ملک کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا، ٹیکسٹائل کے شعبہ سے وابستہ تمام افراد کے ساتھ ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کیلئے اقدامات کئے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جب آئی تو ٹیکسٹائل کا شعبہ ڈوب رہا تھا، اسپننگ ملز اس وقت سب سے زیادہ مشکلات کا شکار تھیں، بجلی، گیس اور مارک اپ جیسے مسائل ہم نے حل کرائے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیصل آباد کے نہیں پورے ملک کے وزیر ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعتیں لاہور، کراچی، ملتان، شیخوپورہ اور